



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر)) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة النبأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

.1

کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں؟

عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ

.2

(کیا ہے) وہ بڑی خبر؟

الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ

.3

جس میں وہ کئی طرف (اختلاف) ہو رہے ہیں۔

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

.4

یوں نہیں! اب جان لیں گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

.5

پھر بھی یوں نہیں! اب جان لیں گے۔

.6

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

(کیا) ہم نے نہیں بنائی زمین بچھونا؟

.7

وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا

اور پہاڑ (اسکی) میخیں؟

.8

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

اور تم کو بنایا جوڑے جوڑے،

.9

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

اور بنائی نیند تمہاری دفع ماندگی (باعث سکون)،

.10

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

اور بنائی رات اوڑھنا (پردہ پوش)،

.11

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

اور بنایا دن روزگار کو۔

.12

وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

پھر چنی تم سے اوپر سات چُنائی (آسمان) مضبوط،

.13

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

اور بنایا ایک چراغ چمکتا،

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا  
اور اتارا نچرتی بدلیوں سے پانی کاریدا (بارش)،

.14

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا  
(تا) کہ نکالیں اس سے اناج اور سبزہ،

.15

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا  
اور باغ پتوں میں لپٹ رہے۔

.16

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا  
بیشک دن فیصلے کا ہے ایک وقت ٹھہر رہا (مقرر)۔

.17

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا  
جس دن پھونکیں زسنگ (بگل، صور)، پھر چلے آؤجٹ جٹ (فوج در فوج)۔

.18

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا  
اور کھولا جائے آسمان، تو ہو جائیں دروازے۔

.19

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا  
اور چلائے جائیں پہاڑ، تو ہو جائیں ریت۔

.20

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا  
بیشک دوزخ ہے تاک میں،

.21

لِلطَّاعِينَ مَآبًا

شہیروں کا ٹھکانا،

.22

لَا يَثِينُ فِيهَا أَحْقَابًا

رہتے ہیں اس میں قرونوں (مدتوں)۔

.23

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا

نہ چکھیں وہاں کچھ مزہ ٹھنڈک کا، اور نہ ملے کچھ پینا،

.24

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔

.25

جَزَاءً وَفَاءً

(یہ) بدلہ ہے پورا۔

.26

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا

وہ تھے توقع نہ رکھتے (کسی) حساب کی،

.27

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا

اور جھٹلائیں ہماری آیتیں مکر (جھوٹ سمجھ) کر۔

.28

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

اور ہر چیز ہم نے گن رکھی لکھ کر۔

.29

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

30

اب چکھو کہ ہم بڑھاتے نہ جائیں گے تم پر مگر مار (عذاب)۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

31

بیشک ڈروالوں (متقیوں) کو مراد ملنی ہے۔

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا

32

باغ ہیں اور انگور،

وَكَوَاعِبَ أُنثَرَابًا

33

اور نوجوان عورتیں ایک عمر سب کی،

وَكَأْسًا دِهَاقًا

34

اور پیالہ چھلکتا،

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا

35

نہ سنیں گے وہاں بکنا (بیہودہ بات) اور نہ مکرانا (جھوٹ)۔

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

36

بدلہ ہے، تیرے رب کا دیا حساب سے،

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ

37

جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے بڑی مہر (محبت) والا،

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا

(لیکن) قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا

جس دن کھڑی ہو روح اور فرشتے قطار ہو کر۔

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

کوئی نہیں بولتا، مگر جس کا حکم دیا رحمن نے، اور بولا بات ٹھیک۔

ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ

وہ دن ہے تحقیق (برحق)،

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءًا

پھر جو کوئی چاہے، بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانا۔

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ

ہم نے خبر سنادی تم کو ایک آفت (عذاب) نزدیک کی، جس دن دیکھ لیگا آدمی جو آگے بھیجا اسکے ہاتھوں نے،

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

اور کہے منکر کسی طرح میں مٹی ہوتا۔

\*\*\*\*\*